

آپ کس طرح جرمن اور مادری زبان دونوں میں  
اسکول کے لئے اپنے بچے کے ساتھ مشق کرسکتے ہیں:

### تیاری

- 1- اپنے بچے کے ساتھ پرسکون جگہ کا انتخاب کریں۔
- 2- پرسکون ماحول کا ہونا مشق کرنے کے لئے بہت اہم ہے۔
- 3- اسکول کی چیزیں میز پر تیار ہوں۔
- 4- بچہ آپ کو اپنے اسائنمنٹس دیکھاتا ہے۔
- 5- کیا اسکول کی ڈائری ہے؟ اگر ہے تو ہر روز اسکول کی ڈائری چیک کریں۔

### آخر میں:

- 1- کیا اسکول کا بستہ صاف ہے؟
- 2- کیا تمام اسکول اسٹیشنری بستے میں موجود ہیں؟
- 3- آپ اپنے بچے کی کارکردگی سے خوش ہوں وہ جس طرح سیکھ رہا ہے۔
- 4- اس کی تعریف کریں۔
- 5- اپنے بچے کے ساتھ اسکول کے ہوم پیج کو باقاعدگی سے چیک کریں۔

### براہ مہربانی یاد رکھیں:

- 1- بچے کو پڑھنے اور سیکھنے کے لئے آرام اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔
- 2- بچوں کو سیکھنے کے لئے اچھی کارکردگی دیکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اس کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرنا چاہئے۔
- 3- سیکھنے کے عمل کو خوشگوار ہونا چاہئے۔
- 4- آپ کے بچے کو دن میں کم از کم 10 منٹ کیلئے بلند آواز میں مطالعہ کرنا چاہئے۔

اس طرح آپ اپنے بچے کے ساتھ اسکول کے لیے روزانہ مشق کرسکتے ہیں۔

<p>1- آپ کے بچے کو مشق کے لئے ایک پرسکون جگہ کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھیں -</p>
<p>2- آپ کا بچہ آپ کو اسکول میں گزرنے والے اپنے دن کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کی باتیں دلچسپی سے سنیں۔</p>
<p>3- بچہ آپ کو اس دن کے تمام ہوم ورک کی وضاحت کرتا ہے۔ آپ مزید سوال کریں۔</p>
<p>4- مشق کے دوران ، بچہ تمام جرمن زبان کے حروف ، الفاظ اور جملے بلند آواز میں اور آہستہ پڑھتا ہے۔ مل کر اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں</p>
<p>5- آپ کا بچہ آپ کو مکمل شدہ ہوم ورک دکھاتا ہے۔ اپنے بچے کو داد دیں۔</p>
<p>مزید ٹپس:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- روزمرہ کی زندگی میں ، جرمن اور مادری زبان میں چیزوں کے نام لیں:</li> <li>∅ رنگ ، لوگ اور اشیاء کے نام</li> <li>∅ کھانے کی اشیاء کے نام</li> <li>∅ ٹریفک میں چیزوں کے نام</li> <li>∅ جسم کے اعضاء ، کپڑے وغیرہ کے نام -</li> <li>- جرمن میں خریداری کی فہرست لکھیں</li> <li>- تصاویر بیان کریں</li> </ul>
<p>جب آپ اکٹھے ہوں تو اپنے بچے کو جرمن الفاظ کو بار بار بلند آواز سے دہرانے کو کہیں۔</p>